



## سوال

(221) بالغ لڑکی جو پانچ سال سے بالغ ہے۔ شادی نہ کرنا کیسا فعل ہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بالغ لڑکی جو پانچ سال سے بالغ ہے۔ شادی نہ کرنا کیسا فعل ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو شخص بالغ لڑکی کی شادی نہ کرے۔ جو خرابی ہوگی وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ (الحدیث 3 اپریل 1931ء)

## تاقب

اخبار اہل حدیث مورخہ 22 رمضان بصفحہ فتاویٰ سوال نمبر 81 میں ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے۔ کہ تجھے طلاق رجعی ہے۔ پھر اس مجلس میں یا دو چار روز کے بعد اپنی بیوی کو مخاطب کر کے یا کسی اور کے پاس کہتا ہے۔ کہ میں اس طلاق سے رجوع نہیں کروں گا۔ کچھ دن اسی حال میں گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے دل میں رجوع کا خیال پیدا ہو تو کیا اس حال میں رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ (از فضل دین ازرائے کلاں ضلع امرتسر)

جواب۔ نمبر 81۔ رجوع کا حق ایسا کہنے سے ساقط نہیں ہوتا۔ لہذا رجوع کر سکتا ہے ہاں اپنی بات میں جھوٹا ہوگا۔

ہذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب



جلد 2 ص 175

محدث فتویٰ